



## ضغ اسم حيوانٍ أو طيرٍ في الفراغ

SHYIRÁ IZINA RY'INYAMASWA CYANGWA INYONI MU  
MWANYA URIMO UBUSA

1 {وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجَبُوا (.....)}

MUNIBUKE UBWO MUSA YABWIRAGA ABANTU BE ATI “MU BY’UKURI, ALLAH ABATEGETSE KUBAGA .....

2 {فَالْتَقَمَهُ (.....) وَهُوَ مُلِيمٌ}

NUKO.....IRAMUMIRA AGAYITSE

3 {وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى (.....) أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ}

NUKO AGENZURA INYONI MAZE ARAVUGA ATI “KO NTABONA .....?  
CYANGWA IRI MU ZIDAHARI?

4 {فَبَعَثَ اللَّهُ (.....) يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ}

NUKO ALLAH YOHEREZA ..... GICUKURA MU BUTAKA (GIHAMBWA KIGENZI  
CYACYO), KUGIRA NGO KIMWEREKE UKO ASHYINGURA UМУVANDIMWE WE.

5 {قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ (.....) وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ}

(SE) ARAVUGA ATI “MU BY’UKURI NATERWA AGAHINDA NO KUBA MWAMUJYANA (KURE YANJYE)  
NDANATINYA KO ..... CYAMURYA MWE MWIRANGARIYE MUTAMWITAYEHO.”

6 {يَأْيُهَا (.....) ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ}

“YEMWE MWA ..... MWE! NIMWINJIRE MU BUTURO BWANYU,  
SULAYIMANI N’INGABO ZE BATABASYONYORA BATABIZI.”

7 {إِنْ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ (.....) وَلِيَ (.....) وَاحِدَةً}

MU BY’UKURI UYU MUVANDIMWE WANJYE AFITE ..... MIRONGO CYENDA N’ICYENDA,  
MU GIHE NJYE MFITE ..... IMWE (GUSA), ARIKO YAVUZE ATI “NA YO YINDAGIZE!”  
(NYAMARA NJYE SIMBISHAKA), NONE YANDUSHIJE IJWI.

8 {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ (.....) إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ}

URUGERO RWE NI .....: IYO UYIRUKANKIJE IRAHAGIRA,  
WAYIREKA IGAKOMEZA KWAHAGIRA



9 {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ (...)}{

ESE (YEWE MUHAMADI) NTIWAMENYE UKO NYAGASANI WAVE YAGIZE ABAGABYE IGITERO BARI KU ..... ?

10 {كَأْتَهُمْ (...)} مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِنْ (...){

BAMEZE ..... Z'AGASOZI ZIRUKA (ZIFITE UBWOBA), ZIHUNGA.....

11 {فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ مُبِينٌ (...)}{

NUKO (MUSA) ANAGA INKONI YE HASI, IHITA IHINDUKA ..... (NINI) IGARAGARA.

12 {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ (...)} يَحْمِلُ أَسْفَارًا{

ABARAGIJWE (AMATEGEKO YA) TAWURATI ARIKO NTIBAYIKURIKIZE, BAGERERANYWA ..... YIKOREYE IBITABO.

13 {وَيَا قَوْمِ هَذِهِ (...)} اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ{

YEMWE BANTU BANJYE! DORE IYI ..... YAALLAH NI IKIMENYETSO KURI MWE, BITYO NIMUYIREKE IRISHE KU BUTAKA BWA ALLAH, KANDI NTIMUZAYISAGARIRE

14 {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى (...)} أَنْ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ{

NYAGASANI WAVE YANAHISHURIYE .....(AGIRA ATI) "MWUBAKE AMAZU MU MISOZI, MU BITI NO MU BYO (ABANTU) BUBAKA (IMITIBA)"

15 {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَ (...)} وَ (...)} وَ (...)} وَ الدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا

NUKO TUBATEZA UMWUZURE, ..... , ..... , ..... {وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ}

..... N'AMARASO (IMIGEZI N'AMARIBA BYABO BIHINDUKA AMARASO, IBYO BIBA NK'URUHEREREKANE) RW'IBIMENYETSO BISOBANUTSE; ARIKO BAKOMEJE KWIGOMEKA, KANDI BARI ABANTU B'INKOZI Z'IBIBI.

16 {مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ (...)} اتَّخَذَتْ بَيْتًا{

URUGERO RW'ABASHYZE IBIGIRWAMAÑA MU CYIMBO CYA ALLAH (BIRINGIYE KO HARI ICYO BYABAMARIRA) NI ..... CYIYUBAKIYE INZU (CYIRINGIYE KO IKOMEYE NTA CYAGIHUNGABANYA)

17 {فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهِوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا (...)} حَاسِبِينَ{

"NUKO UBWO BANGAGA KUREKA IBYO BARI BARABUJIJWE, TWARABABWIYE TUTI "NIMUBE ..... MUSUZUGURITSE!"



18 {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ (.....) كَيْفَ خُلِقَتْ}

ESE NTIBITEGEREZA UKO ..... ZAREMWE?

19 {خُشِعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ (.....) مِّنْتَشِرُونَ}

BAZABA BUBITSE AMASO (KUBERA IKIMWARO), BASOHOKA MU MVA BAMEZE ..... ZINYANYAGIYE.

20 {أَيُّومَ يَكُونُ النَّاسُ (.....) الْمَبْتُوثِ}

NI UMUNSI (W'IMPERUKA), UBWO ABANTU BAZAMERA ..... BINYANYAGIYE,

NI ABAVUMWE NA ALLAH {مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ (.....) وَ (.....)}

AKABARAKARIRA, AKAGIRA BAMWE MURI BO ..... NI .....

22 {فِرَاعٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ (.....) سَمِينٌ}

NUKO ARINYABYA ASANGA AB'IWE, AZANA ..... ISHISHE.

23 {فَأَلْقَاهَا فِإِذَا هِيَ (.....) تَسْعَىٰ}

NUKO AYINAGA HASI, IHITA IHINDUKA ..... IKURURUKA.

24 {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ (.....) اثْنَيْنِ وَمِنَ (.....) اثْنَيْنِ}

(YABAREMEYE) AMOKO UMUNANI .....; N'EBYIRI MU .....

25 {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا (.....) فَمَا فَوْقَهَا}

MU BYUKURI, ALLAH NTATERWA .....; CYANGWA IKIWURUTA.

26 {قَالُوا نَفَقْدُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ (.....) وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}

BARAVUGA BATI "TWABUZE INGEMERI Y'UMWAMI, KANDI UYIZANA ARAHEMBWA IBINGANA N'UMUTWARO ..... KANDI IBYO NDABYISHINGIYE."

27 {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ (.....) صُفْرٌ}

(IBYO BISHASHI) BIMEZE ..... Z'AMAGAJU.

28 {قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْبُتْ بِهَا عَلَىٰ (.....) وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ}

(MUSA) ARAVUGA ATI "NI INKONI YANJYE NISHINGIKIRIZA, NKANAYIMANUZA AMABABI Y'IBITI NGABURIRA ..... ZANJYE, KANDI MFITE N'IBINDI NYIKORESHA."

29 {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا (.....) وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ}

MU BY'UKURI IBYO MUSENGA BITARI ALLAH NTIBISHOBORA KUREMA ..... KABONE N'IYO BYAYITERANIRAHU.

30 {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطٍ (.....) تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}

KANDI MUBITEGURE N'IMBARAGA ZANYU ZOSE ..... YAMBARIYE INTAMBARA, KUGIRA NGO BITERE UBWOBA ABANZI BA ALLAH NDETSE

N'ABANZI BANYU.